



Valley Stream UFSD Thirteen

585 N. Corona Avenue Valley Stream, New York • 11580 • (516)568-6100
www.valleystream13.com

Constance D. Evelyn, Ed.D.

نگران کار برائے اسکولز

27 فروری 2019ء

محترم Valley Stream UFSD Thirteen کے خاندان،

مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ قومی سطح پر جانا مانا بعد از اسکول پروگرام، **Right at School**، اس موسم خزاں ہمارے ضلع میں رہنے والے خاندانوں کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ **Right at School** کے ذریعے ہمارے طلباء کو اعلیٰ معیار کا پہلے اور بعد کی دیکھ بھال کی تقویت ملے گی۔

Right at School کے پروگرامز منظم ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی مرکوز ہیں۔ ایک صحت بخش سنیک اور مزے دار فٹنیس سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں کے بعد، شرکت کرنے والے طلباء پر عظیم ماہرین تعلیم کے ساتھ مل کر اپنا ہوم ورک مکمل کریں گے، جس کے بعد وہ نصاب پر مشتمل تقویت کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ **Right at School** کا تقویت کا نصاب مخصوص، دو ہفتے کے دورانیے کے یونٹس کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ طلباء ان سرگرمیوں سے اس قدر لطف اندوز ہوں گے کہ ممکن ہے کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ وہ منصوبہ بند تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہی **Right at School** کا "پوشیدہ تعلیم" کے طریقہ کار ہے۔

والدین **Right at School** کے تعاون کے ساتھ اپنے گھر والوں کی مصروف زندگیوں کے مطابق ایک لچک دار شیڈول تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملاقاتی دیکھ بھال کا اختیار بھی موجود ہے۔ **Right at School** اسکول کی چھٹیوں کے دوران گھر والوں کو محفوظ اور متواتر دیکھ بھال کی سہولیات بھی فراہم کریں گے۔ ایک بہترین پروگرام پیش کرنے کے علاوہ، **Right at School** میں طلباء اور عملے کا کم تناسب، لچک دار شیڈولنگ، آن لائن رجسٹریشن اور ادائیگی، مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے رعایات، اسکالرشپس، اور کمیونٹی پارٹنرشپس کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ رجسٹریشن 8 مارچ سے بغیر کسی ویٹنگ لسٹ کے www.rightatschool.com پر شروع ہوگی۔

Right at School نے 11 مارچ کو James A. Dever Elementary School کے آڈیٹوریم میں شام 6.30 بجے والدین کے لیے ایک فورم کا انتظام کیا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے Dever کی لائبریری میں بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت بالکل مفت فراہم کی جائے گی۔ والدین کے اس فورم کے ذریعے آپ کو ہمارے نئے ضلع کے پارٹنر سے متعارف کیا جائے گا اور آپ ان کے پروگرام کے متعلق سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس پروگرام کے متعلق مزید معلومات کے لئے **Right at School** کی ویب سائٹ www.rightatschool.com پر بھی تشریف لاسکتے ہیں۔

ہم Valley Stream UFSD Thirteen میں **Right at School** متعارف کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ یہ ہماری اسکول کی کمیونٹی میں بہت اچھا اضافہ ثابت ہوگا۔

خلوص کے ساتھ،

Constance Evelyn, Ed.D.
نگران کار